

65632 - کیا رمضان المبارک میں اپریشن کے لیے بے ہوشی کا ٹیکہ لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

سوال

رمضان المبارک میں مجھے دو اپریشن کروانے پڑے، ان دونوں اپریشنوں میں بے ہوشی کا ٹیکہ استعمال کیا، تو کیا اس سے میرا روزہ فاسد ہو گیا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

دوائی والا ٹیکہ چاہے مسل میں لگے یا ورید (وین) میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر انجیکشن غذائی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے اس لیے کہ اس وقت یہ کھانے پینے کے معنی میں ہو گا جو کہ روزے دار کے لیے حرام ہے۔

مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں ہے:

"رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں مسل اور ورید میں دوائی انجیکشن لگانا جائز ہے، لیکن غذائی انجیکشن روزہ کی حالت میں لگانا جائز نہیں ہے؛ کیونکہ یہ کھانا پینا تناول کرنے کے حکم میں ہے، تو اس طرح کے انجیکشن لگانا روزہ ختم کرنے کے لیے حیلہ شمار ہو گا، اور اگر مسل اور ورید میں رات کے وقت انجیکشن لگائے جائیں تو یہ بہتر ہے" انتہی

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء (10 / 252).

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے جسم میں بہنگ سرایت کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

اور کیا داڑھ نکالنے کی بنا پر نکلنے والے خون سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا:

"ان دونوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن داڑھ سے نکلنے والا خون نہ نکلے" انتہی

دیکھیں: فتاویٰ رمضان صفحہ نمبر ( 525 ) .

طبی نشہ والی بھنگ ( جو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال ہو ) اور وہ بھنگ جو عقل میں فتویٰ پیدا کرتی ہے میں کوئی فرق نہیں، بہت سے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ بے ہوش شخص جب دن میں ایک لحظہ بھی ہوش میں آجائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، جبکہ اس نے روزہ کی نیت رات کو کی ہو۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

" اور جب کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو رمضان کا ایک یا دو دن بے ہوشی میں رہے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس پر روزے کی قضا ہو گی اور اگر وہ دن کا کچھ وقت ہوش میں آیا ہو تو وہ اس دن میں روزے سے ہو گا" انتہی

دیکھیں: کتاب الام ( 8 / 153 ) .

اور ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

جب کوئی شخص سارا دن بے ہوش رہے اور اسے ذرا بھی ہوش نہ آئے تو ہمارے امام ( یعنی امام احمد ) اور شافعی رحمہ اللہ کے قول میں اس کا روزہ صحیح نہیں۔

اور اگر بے ہوش شخص کو دن کے کسی حصہ میں ہوش آجائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، چاہے دن کے شروع میں ہوش آئے یا آخر میں " انتہی مختصراً

دیکھیں: المغنی لابن قدامہ المقدسی ( 4 / 343 ) .

واللہ اعلم .